



پہلی بات : آج ہمارے سامنے علم کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ کتابوں سے لے کر انٹرنیٹ تک علم کے سارے ذرائع موجود ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں اور ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس سبق میں عربی، فارسی اور سنسکرت کے ایسے ہی ایک مشہور عالم ابو ریحان الہیروں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جو علم کے شوق میں بھارت آئے تھے اور یہاں کافی عرصہ گزارا۔

جان پچان : عبدالسلام قدواتی ندوی مارچ ۱۹۰۷ء میں رائے بریلی کے قصبہ بھراواں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ندوۃ العلماء، لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی۔ وہیں عربی زبان و ادب کی تدریس کے فرائض انجام دیے۔ پندرہ روزہ اخبار ”قیمیر“ کی اشاعت میں تعاون کیا۔ ان کی مشہور تصانیف میں ’ہماری بادشاہی، عربی زبان کے دس سبق، ہندوستان کی کہانی‘، قابل ذکر ہیں۔ ۲۳ اگست ۱۹۷۹ء کو ان کا انتقال ہوا۔

گیارہویں صدی عیسوی میں افغانستان سے ایک بہت بڑے عالم ہندوستان آئے۔ ان کا نام تھا ابو ریحان الہیروں۔ الہیروں نے یہاں رہ کر سنسکرت زبان سکھی اور ہندوستانی تہذیب اور رہنمائی کا بغور مطالعہ کیا۔ اپنے مطالعے اور معلومات کی روشنی میں انہوں نے عربی زبان میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ”کتاب الہند“ ہے۔ وہ زندگی کی آخری سانس تک علم حاصل کرنے میں لگے رہے۔

الہیروں کے زمانے کے ایک نامور عالم کا بیان ہے کہ الہیروں جب بیمار پڑے تو وہ عیادت کرنے والوں سے اپنی تکلیفیں بیان کرنے کی بجائے علمی گفتگو کرتے تھے۔ جب ان پر بیماری کا پورا غلبہ ہوا، ان کے صحت یا ب ہونے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور ہر آن ان کی زندگی کا چراغ گل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تو ان کے تمام دوست، شاگرد اور عقیدت مند بے چین ہو گئے۔ عیادت کرنے والوں کا تانتابندھ گیا۔

جب میں نے سنا کہ ان کی حالت نازک ہے تو میں بھی عیادت کے لیے گیا۔ دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ علم و تحقیق کا یہ پتلا زندگی اور موت کی کشمش میں بنتا تھا۔ ہر لمحہ سانس رک جانے کا ڈر تھا لیکن مجھے دیکھ کر وہ اپنی بیماری بھول گئے اور سخت کمزوری کے باوجود انہوں نے ایک مشکل علمی مسئلہ حل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھ سے کہنے لگے، ”اچھا ہوا آپ وقت پر آ گئے۔ میں کچھ دیر سے ایک مشکل مسئلے کے بارے میں غور کر رہا ہوں لیکن ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ عالم ہیں۔ مہربانی فرمائ کر یہ مسئلہ مجھے سمجھا دیجیے۔ آپ کا بڑا احسان ہو گا۔“

البیرونی کی یہ بات سن کر میں اچنپھے میں پڑ گیا۔ اس آخری وقت میں بھی ان کا یہ شوق! میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگا۔ میری اس خاموشی نے انھیں پریشان کر دیا۔ کہنے لگے، ”آخراً آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا یہ مسئلہ آپ کے لیے بھی مشکل ہے؟“ میں نے کہا، ”نہیں! مسئلہ کا حل میرے لیے مشکل نہیں ہے لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ آپ کی یہ حالت، بیماری کی یہ شدت اور ایسے نازک اور مشکل وقت میں آپ ایک مسئلہ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس سے کیا حاصل؟ اب مزید علم حاصل کر کے کیا کیجیے؟“

میں سمجھتا تھا کہ میری بات سن کر البیرونی کسی مسئلے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے مگر وہاں تو علم کے شوق کا اور ہی عالم تھا۔ کہنے لگے، ”آپ سمجھتے ہیں کہ میرا آخری وقت آگیا ہے اور اس موقع پر کسی نئے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے لیکن میرے محترم! اگر مرنے سے پہلے میں ایک اور نیا مسئلہ جان جاؤں تو کیا مجھے خوشی نہیں ہوگی؟ مرنے سے پہلے میں آخر اس خوشی سے کیوں محروم رہوں؟“


البیرونی کا یہ جواب سن کر میں دنگ رہ گیا۔ علم کا شوق ہوتا ایسا ہو۔ میں نے اس مسئلے پر گفتگو شروع کی اور اس کی باریکیاں سمجھانے لگا۔ البیرونی دلچسپی کے ساتھ میری بات سننے لگے اور اسی حال میں اُن کی روح پرواز کر گئی۔

معانی و اشارات

بیماری کا غلبہ ہوا	-	بیماری بڑھ گئی
زندگی کا چراغ	-	مراد زندگی ختم ہونا
گل ہونا	{	گل ہونا
عیادت	-	بیمار کا حال پوچھنا
تانتابندھنا	-	لگاتار آنا
		Coming abundantly, rush

مشقی سرگرمیاں

♦ دیے ہوئے الفاظ کی جمع لکھیے۔




♦ خاکہ کمکل کیجیے۔



♦ سبق کی مدد سے البیرونی کا روایا خاکہ کمکل کیجیے۔

ابوریحان البیرونی گیا رہوں صدی عیسوی میں سے



تحریری سرگرمی

نکات کی مدد سے کہانی لکھیے۔

دودوست جنگل سے گزر اچانک سامنے سے رپچھ
آتا دکھائی دینا گھبرا نا ایک دوست کا پیڑ پر چڑھنا
دوسرے کا نہ چڑھ پانا زمین پر لیٹنا رپچھ کا
آن سونگھنا آگے بڑھ جانا دوست کا وجہ پوچھنا
جواب دینا نتیجہ
.....

عملی قواعد

درج ذیل جملے غور سے پڑھیے۔

- ۱۔ والدین بچوں کے لیے کپڑے بناتے ہیں۔
- ۲۔ احمد نے ایک خط لکھا۔
- ۳۔ یاسین سنترے کھائے گی۔

پہلے جملے میں الفاظ بناتے ہیں، دوسرے جملے میں 'لکھا' اور تیسرا جملے میں 'کھائے گی' سے کام کا کرنا ظاہر ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو **فعل (Verb)** کہتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ والدین، احمد، یاسین کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو لفظ کام کرنے والے کے لیے آتا ہے، اسے **فاعل (Subject)** کہتے ہیں۔ عام طور پر 'کون' اور 'کس نے' کے جواب میں فاعل آتا ہے۔

ان جملوں میں فعل اور فاعل کے علاوہ کچھ اور باقی بھی کہی گئی ہیں۔ پہلے جملے میں فعل بناتے ہیں، کا اثر کپڑے پر پڑا۔ اگر سوال کریں کہ والدین نے کیا بنایا؟ تو جواب ہوگا، کپڑے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں لکھنے کا اثر خط پر اور تیسرا جملے میں کھانے کا اثر سنترے پر ہوتا ہے۔ الفاظ کپڑے، خط اور سنترے اسم ہیں۔

جس اسم پر فعل کا اثر ظاہر ہوا سے **مفعول (Object)** کہتے ہیں۔ یہاں کپڑے، خط اور سنترے مفعول ہیں۔

فقرہ اور محاوروں کی مفہوم سے جوڑیاں لگائیے۔

مفہوم	فقرے / محاورے
زندگی ختم ہونا	آخری سانس تک
زندگی کے آخر وقت تک	زندگی کا چراغ گل ہونا
حیران رہنا	تانتا بندھنا
لگاتار آنا	ہوش اُڑ جانا
بہت زیادہ تعجب ہونا	دنگ رہ جانا
پریشان ہونا	اچنچھے میں پڑ جانا

درج بالا فقرہ اور محاوروں کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔

البیرونی کے علم کے شوق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔

البیرونی کے زمانے کے نامور عالم کا بیان لکھیے۔

البیرونی کے آخری وقت عالم سے گفتگو کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔

ذیل کے جملوں کو سبق کی ترتیب کے مطابق لکھیے۔

۱۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا آخری وقت آگیا ہے۔

۲۔ علم و تحقیق کا یہ پتلا زندگی اور موت کی کشمکش میں بتلا تھا۔

۳۔ ان کے صحت یا بہت کی کوئی امید باقی نہ رہی۔

۴۔ البیرونی نے یہاں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی۔

جملے کی قسم پہچان کر لکھیے۔

۱۔ گیارہوں صدی عیسوی میں افغانستان سے ایک بہت بڑے عالم ہندوستان آئے۔

۲۔ مجھے دیکھ کروہ اپنی بیماری بھول گئے اور سخت کمزوری کے باوجود ایک مشکل علمی مسئلہ حل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔

۳۔ مرنے سے پہلے میں آخر اس خوشی سے کیوں محروم رہوں؟

۴۔ اس آخری وقت میں بھی ان کا یہ شوق!